

Maulana Azad National Urdu University
MBA IV Semester Examination May - 2018

Paper: MMBA411DST : International Human Resource Management (IHRM)

Total Marks : 70

Time : 3 hours

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات / خالی جگہ پر کرنا / مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ ($10 \times 1 = 10$ Marks)

2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ ($5 \times 6 = 30$ Marks)

3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ ($3 \times 10 = 30$ Marks)

حصہ اول

سوال: 1

میزبان ملک اور مقامی شہری کے علاوہ دیگر ملک کے شہری _____ کہلاتے ہیں۔ (i)

(a) میزبان ملک کے باشندے (Host Country Nationals)

(b) پیرون ملک کے باشندے (Expatriates)

(c) قومی باشندے (Home Country Nationals)

(d) تیسرا ملک کے باشندے (Third Country Nationals)

بین الاقوامی معاوضے کے انظامیہ (International Compensation Management) میں _____ طریقہ عمل ہے جس کے تحت معاوضہ قومی اور بین الاقوامی لاغت یکساں ہوتی ہے۔ (ii)

(a) ہیڈ کوارٹر نقطہ نظر (Headquarter Approach) (b) نقد بہاؤ نقطہ نظر (Cash Flow Approach)

(c) آمدنی کا بیان نقطہ نظر (Income Statement Approach) (d) بیلنس شیٹ نقطہ نظر (Balance - Sheet Approach) مالی ادائیگی (Financial Payments) جو تنخواہ کے علاوہ فرماہم کی جاتی ہے _____ کہلاتی ہے۔ (iii)

(a) اخلاقی امتیازات (Mobility Premiums) (b) متحرك پریم (Ethnocentric Allowances)

(c) احتیاطی معاوضہ (Hardship Allowances) (d) غیر ملکی خدمات پریم (Foreign Service Premiums)

غیر شہری ملازمین جو میزبان ملک (Host Country) میں اپنے خدمات (Services) انجام دے رہے ہیں _____ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ (iv)

(a) ماتحت (Subordinates) (b) ماتحت (Subordinates)

(c) ہم آہنی (Coordinates) (d) ہم آہنی (Coordinates)

(None of above) (d) ان میں سے کوئی نہیں

- (v) کسی بین الاقوامی کمپنی کا ہیڈ کوارٹر (Head Quarter) جہاں واقع ہوتا ہے وہ ملک کہلاتا ہے۔
- (a) میزبان ملک (Home Country) (b) مقامی ملک (Host Country)
- (c) تیسرا ملک (Third Country) (d) ان میں سے کوئی نہیں (None of the above)
- (vi) حکمت عملی (Strategy) کے تحت بین الاقوامی کمپنی صرف قومی باشندوں (Home Country Nationals) کو منتخب کرتی ہے۔
- (a) یورپی مرکزیت (Geocentric Approach) (b) کثیر رخی مرکزیت (Polycentric Approach)
- (c) نسلی مرکزیت (Ethnocentric Approach) (d) ان میں سے کوئی نہیں (None of the above)
- (vii) یروپ ملک میں ملازمت اور رہائش کے دوران میزبان ملک (Host Country) کی ثقافت (Culture) کا ابتدائی رابطہ ہے۔
- (a) شفافیت (Adjustment) (b) ایڈجیسمنٹ (Culture Shock)
- (c) وابستگی (Aquaintance) (d) ان میں سے کوئی نہیں (None of the above)
- (viii) بین الاقوامی انسانی وسائل کا انتظامیہ (IHRM) ایک ایسا تعلیمی مطالعہ ہے جس کی توجہ پر مکون ہے۔
- (a) موازن تحقیق (Comperative Research)
- (b) قومی حدود میں افراد کی تحریک (The Movement of Individuals across National Boundries)
- (c) خیالات اور طریقوں کے تبادلے (The Exchange of Ideas and Practices)
- (d) بین الاقوامی کمپنیوں کے حکمت عملیاں اور عمل (The Policies and Practices of MNC's)
- (ix) عالمی معیشت (Global Economy) کا مطلب ہے۔
- (a) قوی اقتصادی اور سماجی شاختوں کا مجموعہ (Greater Convergence of National Economic & Social Identities)
- (b) قومی سرحدوں میں لوگوں کی غیر محدود تحریک (Greater Divergence)
- (c) ایک عالمی ثقافت (Unrestricted Movement of Peoplo across National Boundries)
- (d) ان میں سے کوئی نہیں (None of above)
- (x) روایتی HRM اور بین الاقوامی HRM کے درمیان فرق ہوتا ہے۔
- (a) بین الاقوامی حکمت عملیاں، طرز عمل اور مختلف مزدور قانون (Increased Complexities such as Currency Fluctuations, Foreign HR Policies and Practices, and differing labour laws)
- (b) ملازمین کی تعداد میں اضافہ (Number of Employees Covered by the HR Policies)
- (c) نئی ثقافت سے روابط (Ease with which employees adjust to new cultures)
- (d) موثر کراس بورڈر منیچمنٹ اسٹائل کا فروغ (Development of effective cross-boarder management styles)

حصہ دوم

- (2) بین الاقوامی انسانی وسائل کے انتظامیہ (IHRM) کے خصوصیات (Characteristics) بیان کیجیے۔
- (3) بین الاقوامی انسانی وسائل کے انتظامیہ (IHRM) کے افعال (Function) کے پرثافت (Culture) کس طرح متاثر ہوتا ہے۔
- (4) بین الاقوامی معاوضے (International Compensation) کے مختلف اجزاء (Components) کی وضاحت کیجیے۔

- (5) Expatriate Training کی اہمیت (Importance) پر روشنی ڈالیے۔
- (6) بین الاقوامی انسانی وسائل انتظامیہ کے مختلف رجحانات (Approaches) پر روشنی ڈالیے۔
- (7) روایتی انسانی وسائل کا انتظامیہ اور بین الاقوامی انسانی وسائل کا انتظامیہ کے درمیان امتیاز کیجیے۔
- (8) ہندوستان اور جاپان میں ملازمین کے متعلق طرز عمل کا موازنہ کیجیے۔
- (9) Matching Model of IHRM کو پیش کیجیے۔

حصہ سوم

- (10) بین الاقوامی پس منظر میں انسانی وسائل کے انتظامیہ (IHRM) کے بدلتے کردار (Changing Role) پر روشنی ڈالیے۔
- (11) بین الاقوامی انسانی وسائل کے انتخاب (International Staffing) کے مختلف طریقوں کی وضاحت کیجیے۔
- (12) بین الاقوامی معاوضے (International Compensation) پر اثر انداز ہونے والے مختلف عناصر (Factors) کو بیان کیجیے۔
- (13) امریکہ اور ہندوستان میں کی ثقافت و ملازمین سے متعلق طرز عمل کا موازنہ کیجیے۔
- (14) بین الاقوامی انسانی وسائل کے انتظامیہ کے تحت Best Practices اور Employee Related Values کو موضوع مثالوں کے ذریعے سمجھائیے۔

